

پیراگراف نمبر 1: اور اگر تمہارا ہاتھ تمہارا کہا نہ مانے تو اسے کاٹ کر پھینک دو۔ تمہارے لئے زخمی حالت میں زندہ رہنا بہتر ہے، بہ نسبت اس  
کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جہاں ایسی آگ ہے جسے کم نہیں کیا جاسکتا۔

And if your hand is not under your control, then cut it off. It is better for you to stay alive as injured than to enter in hell with both of your hands, where such a fire is present, which cannot be quenched.

satisfactory translation  
6/10

پیراگراف نمبر 2: نوجوان راجپوت آیا اور شہنشاہ کے قدموں میں جھک گیا۔ "جناب! آپ بہادر انسان ہیں، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ زندگی تباہ کرنے سے بہتر اسے بچانا ہے۔" شہنشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا "تم بھی دلیر آدمی ہو جو مجھے بتا رہے ہو کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے۔ لیکن میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے میری جان بخشی کر دی۔ میں شاہی حفاظتی دستے میں تمہیں سپاہی کے طور پر نوکری دیتا ہوں۔"

Day. \_\_\_\_\_

The young Rajput came and fell down at the Emperor's feet. "Sir! you are a brave man, I wanted to kill you but you proved to me that it is better to save a life than to destroy it." The emperor looked at him and said "You are also a brave man as you are telling me that you had come to kill me." But I spared your life like you spared mine. I appoint you as a soldier in Royal Security Troop."

well done  
satisfactory

7/10